

سوال

تراویح کا وقت

جواب

والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

از تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔

یا: (736)

رات یا رات کے کچھ حصے کو نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی وغیرہ میں گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے۔
تہجد سے مراد رات کی نماز ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ خاص طور پر سو کے اٹھ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے تہجد کہلاتی ہے۔
رمضان المبارک میں رات کے ابتدائی حصے میں قیام اللیل کرنے کو تراویح کہا جاتا ہے، اس کو تہجد یا قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں۔

واللہ اعلم بالصواب۔